

## اسلامی بینکاری میں مراہجہ موجدہ کا استعمال: شرعی قواعد کی روشنی میں تنقیدی مطالعہ

محمد عاطف اسلم راؤ\*

محمد عمر رفیق\*\*

### Abstract

One of the fundamental differences between Islamic and the traditional banking is that the foundation of Islamic banking is based on the Islamic modes of business transactions while the traditional banking contracts make some sort of creditor and debtor arrangement between the contracting parties. Also, all the Islamic commercial contracts are based on the principles of equity, fairness, transparency, and justice. Therefore, the institutions offering Islamic financial products and services are supposed to comply with the true spirit of such contracts in form and substance. However, according to a group of prominent *Shari'ah* scholars, some of the adopted business transactions modes in the prevailing Islamic banking system are somehow less *Shari'ah* compliant. Practicing *Murabaha Mu'ajjalah*, in Islamic banking, is one of such kinds of financial modes that heavily criticized by the *Shari'ah* scholar. By adopting an archival research approach and analyzing the accessible established critical literature concerning *Murabaha Mu'ajjalah* the paper make a detailed appraisal. The paper concluded that the adapted arrangement of *Murabaha Mu'ajjalah* in the contemporary Islamic banks is *Shari'ah* compliant in form but not in substance. It is also concluded that in order to protect the religious stance and ideological commitments of both the existing and potential customers, Islamic banks must need to comply with the true spirit, form, and substance of all the adopted Islamic financial modes.

**Keywords:** Classical *Murabaha*, Islamic Financial Contracts, *Murabaha Mu'ajjalah*, *Shari'ah* Scholars.

### تعارف:

جدید اسلامی بینکاری کی دنیا میں مراہجہ کا استعمال صنعت کاروں اور دیگر کسٹمرز کو قرضہ کی فراہمی کے کیا جاتا ہے۔ جس میں سے اصل قرضہ کسی بھی مال کی لاگت کے مقابلے میں آجاتا ہے اور سودی بینک جو قرضہ پر نفع لیتے ہیں، اسلامی بینکوں میں یہی مراہجہ کے نفع کے طور پر وصول کیا جاتا ہے۔

\* ریسرچ ایسوسی ایٹ، اکیڈمی آف اسلامک اسٹڈیز، یونیورسٹی آف ملایا، ملائیشیا۔

\*\* ڈاکٹورل کینڈیڈیٹ، اکیڈمی آف اسلامک اسٹڈیز، یونیورسٹی آف ملایا، ملائیشیا۔

مراجمہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس میں بائع کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی لاگت کا اظہار خریدار کے سامنے امانت کے ساتھ کرے۔ یعنی اس میں کسی چیز کی قیمت میں موجود اس کی لاگت اور نفع کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مذکورہ طریقہ پر بعض پاکستانی علماء کو شدید اعتراضات ہیں جو کہ ان کی جانب سے مختلف فورمز پر پیش بھی کیے جاتے رہے ہیں اور اسلامی بینکاری کے مجوزین کی جانب سے اس کے لیے وضاحتیں بھی پیش کی گئی ہیں کہ کن مجبوریوں کی وجہ سے ان مختلف فیہ صورتوں کو اختیار کیا گیا ہے۔

چنانچہ اس مقالہ میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ مراجمہ کے بنیادی فقہی تصور کی وضاحت کرتے ہوئے اسلامی بینکوں میں رائج مراجمہ موجدہ کا عملی ڈھانچہ بیان کیا جائے اور اس کے ساتھ مراجمہ موجدہ کے حوالے سے چند اہم فقہی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی جائے تاکہ مراجمہ کے اسلامی تصور اور اسلامی بینکوں میں اس کی عملی تعبیر میں موجود اشتراک و افتراق نمایاں ہو جائیں۔ تاہم اس مقالہ کا بنیادی مقصد ان سوالات کا جوابات دینا ہے:

مراجمہ موجدہ کو سودی قرضوں کے متبادل کے طور پر کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟

کیا یہ مثالی اسلامی تمویلی طریقہ ہے؟

اس متبادل اور سودی قرضہ میں کس درجہ مشابہت ہے؟

یہ مشابہت اس نئے طریقہ کار کی فقہی حیثیت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟

یہ مشابہت اس نئے طریقہ کار کی فقہی حیثیت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟

مراجمہ کی حد تک اسلامی بینکاری کے ایک درست متبادل نظام ہونے کے دعوے کو پرکھنے کے لیے مندرجہ بالا سوالات نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ لہذا زیر نظر مقالہ میں ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس سلسلے میں اسلامی بینکاری کے مجوزین اور مانعین حضرات دونوں ہی کے نظریات سے استفادہ کیا جائے گا، تاکہ اس تحقیقی تجزیہ میں جانبداری کا عنصر شامل نہ ہو۔

### موضوع پر سابقہ کام کا جائزہ:

مراجمہ کا مذکورہ تمویلی طریقہ گزشتہ دو دہائیوں سے اسلامی بینکاری میں رائج ہے، لہذا اس موضوع پر کئی انداز سے کام ہوتا رہا ہے، اس سلسلے میں عالمی سطح پر کچھ مقالات وہ ہیں جو اس کی عملی صورت حال اور بینکاری میں اس کے استعمال کے اثرات سے متعلق لکھے گئے، مثلاً مصباح الدین، رسلان اور رمزی کا ایک مشترکہ مقالہ جس میں

مراہمہ مؤجلہ کے عقد کے حسابی کھاتوں میں لکھنے کے طریق کار پر عالمی معاہدہ کا موازنہ کیا گیا<sup>1</sup>۔ نیز اسی طرح چیلنجی وغیرہ کا ایک مقالہ ۲۰۱۷ء میں شائع ہوا جس میں مراہمہ میں منافع کی تعیین کے طریق کار پر بحث کی گئی اور کابور کے علاوہ ایک طریقہ کا تعارف کروایا گیا۔<sup>2</sup> اسی طرح سوہارسونو اور کانڈرانے ایک مقالہ میں مراہمہ کے کسانوں کی معاشی صورت حال کو بہتر بنانے کے لیے ایک تفصیلی طریقہ لکھا۔<sup>3</sup>

لیکن ہمارا موضوع چوں کہ خاص مراہمہ کے شرعی جائزے سے متعلق ہے، لہذا خاص اس موضوع سے متعلق لکھے جانے والے مقالات میں سے ایک نہایت اہم مقالہ السید کا ہے جس میں انہوں نے کموڈٹی مراہمہ کے اسلامی بینکاری میں غلط استعمال کی نشاندہی کی اور یہ واضح کیا اب سدذرائع کے اسلامی اصولوں کے تحت اس طریق کار کو بند کرنا چاہیے۔<sup>4</sup> شتظاء عبد الخالق نے اپنے مقالے میں یہ نتیجہ نکالا کہ اگر مراہمہ کی جگہ اسلامی بینکوں میں استصناع کے طریقہ کو رائج کیا جائے تو کئی شرعی مفاسد سے بچا جاسکتا ہے۔<sup>5</sup> ڈیایاواتی اور اگستامی نے بھی اپنے مقالے میں مراہمہ کا ایک شرعی جائزہ پیش کیا ہے۔<sup>6</sup> ابو عمر فاروق احمد نے اپنے مقالے میں بالخصوص آسٹریلیا میں اس کے استعمال میں شرعی حدود کا جائزہ لیتے ہوئے یہ کہا کہ ان حدود کا انتہائی سختی سے عمل کروانا لازمی ہے۔<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Ahmed, M.U., Sabirzyanov, R. and Rosman, R., "A critique on accounting for murabaha contract: A comparative analysis of IFRS and AAOIFI accounting standards", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, (2016) Vol. 7, No. 3, pp. 190-201. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2016-0041>

<sup>2</sup> Chelhi, K., M. El Hachloufi, M. Aboulethar, A. Eddaoui, and A. Marzak. "Estimation of Murabaha Margin." *Journal of Applied Finance and Banking*, (2017) Vol.7, No. 5: 49.

<sup>3</sup> Suharsono, Judi and Candra, Sulis, Murabaha in Sharia Added Value, an Effort to Increase Probolinggo Shallot Farmers' Economic Scale and Spirituality (August 10, 2013). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2596062> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2596062>

<sup>4</sup> Al Sayyed, Nidal, "The uses and misuses of commodity murabaha: Islamic Economic Perspective.(2010) "

<sup>5</sup> Abdul-Khaliq, Shatha. "Comparison study of Murabaha and Istisnaa in Islamic banking in Jordan." *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business* 5, no. 9 (2014): 603-612.

<sup>6</sup> Mediawati, Elis, and Silviana Agustami. "Sharia Compliance on Murabaha Financing." In 2016 Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship. Atlantis Press, 2016.

<sup>7</sup> Ahmad, Abu Umar Faruq. "Shariah parameters of Murabaha in Islamic finance: the Australian experience." *International Journal of Excellence in Islamic Banking and Finance* 182, no. 878 (2012): 1-33.

قاضی عرفان نے اپنے مقالے میں مرابحہ اور سودی قرضے کا تقابل کیا اور نتیجہ یہ نکالا کہ ایک بینکار کے نقطہ نظر سے کوئی فرق نہیں، البتہ معاشی نتائج کے اعتبار سے فروق ہو سکتے ہیں۔<sup>8</sup> محمد عباس، عبد القدوس، ناصر شریف نے خاص کر پاکستان میں اس کے عملی طریق کار پر کام کیا اور خلاصہ یہ نکالا کہ علماء کا اس پر انکار کرنا بے بنیاد نہیں۔<sup>9</sup> راشد احمد نے بھی اپنے مقالے میں اسلامی بینکوں پر ایسا ہی اعتراض کیا ہے۔<sup>10</sup>

الغرض شرعی نقطہ نگاہ سے بھی مرابحہ موجدہ کے طریق کار پر کئی مقالہ جات لکھے گئے ہیں، لیکن ان سب میں محض تنقیدی جائزہ کاراستہ اختیار کیا گیا ہے، جب کہ بعض مقالات پر ان تنقیدات کے شافی یا غیر شافی جوابات بھی مرابحہ موجدہ کے حامیوں کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ناقدین کی آراء کے ساتھ مجوزین علماء کی آراء اور ان کے جوابات کا بھی تحقیقی مقارنہ کیا جائے تاکہ مباحثے کا حتمی نتیجہ واضح ہو سکے، جیسا کہ اس مقالے میں کوشش کی گئی ہے۔ البتہ بطور مقدمے کے بیچ مرابحہ کا پس منظر اور اس کا عملی طریقہ واضح کیا گیا ہے تاکہ اس کی بنیاد پر مباحثے کو پیش کیا جاسکے۔ بیچ مرابحہ کا اصل تعلق بیچ امانت سے ہے، اس لیے ہم اپنی بحث کی ابتداء بیچ امانت سے کرتے ہیں۔ تاکہ بیچ مرابحہ کا اصل پس منظر سامنے رہے۔

### بیچ امانت کی تعریف:

یہ وہ بیچ ہے کہ جس میں بائع مبیع پر آنے والی لاگت کی صراحت کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے۔ اس کو (Sale of Trust) کہہ سکتے ہیں۔ اس بیچ میں مشتری کو بائع کے دھوکہ دینے سے امن رہتا ہے، اس لیے اس کو بیچ امانت کہتے ہیں۔

### بیچ امانت کی اقسام:

بیچ امانت کی تین قسمیں ہیں: جن کی مختصر وضاحت درج ذیل ہے۔

### بیچ تولیہ کا اصطلاحی مفہوم:

یہ وہ بیچ ہے کہ جس میں بائع مبیع کو اس کی لاگت (Cost) پر ہی بیچتا ہے اور اس پر کچھ بھی نفع نہیں لیتا۔

<sup>8</sup> Irfan, Qazi, Murabaha Financing vs. Lending on Interest (July 22, 2008). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1803651> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1803651>

<sup>9</sup> Abbas, Muhammad, A. Q. Sohaib, and N. S. Chaudary. "Is the Current Practice of Murabaha In Pakistan Literally Based on Islam." Al-Adwa 29, no. 42 (2014): 11-20.

<sup>10</sup> Ahmad, Rashid. "A critical analysis of Murabaha transaction in the banking sector of Pakistan".

بیع التولیة: هو البيع بمثل الثمن الأول أي برأس المال من غير زيادة ربح، فكأن البائع جعل المشتري يتولى مكانه على المبيع.<sup>11</sup>

”بیع تولیہ یہ ہے کہ پہلی قیمت یعنی راس المال ہی کے بدلے بیچنا بغیر کسی زیادتی کے، گویا کہ اس میں بائع بیع کے حوالہ سے اپنی جگہ مشتری کو دے دیتا ہے۔ (اس لیے اسے بیع تولیہ کہتے ہیں)“

### ثبوت:

اس طریقہ سے معاملہ کرنا بھی رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔

روي أن أبا بكر - رضي الله عنه - اشترى بعيرين فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - ولني أحدهما فقال هو لك بغير ثمن فقال أما بغير ثمن فلا.<sup>12</sup>

”روایت کیا گیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دو اونٹ خریدے تو آپ ﷺ نے ان سے کہا کہ ان میں سے ایک مجھے بیع تولیہ کے طور پر بیچ دو۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کو مفت ہی لے لیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں بلا قیمت نہیں (بلکہ اس کا عوض لے لو)۔“

### بیع و ضعیفہ کا اصطلاحی مفہوم:

یہ اس بیع کو کہتے ہیں کہ جس میں بائع اپنی چیز کو اپنی لاگت سے بھی کم میں فروخت کرتا ہے۔ اس کو (Selling In Loss) بھی کہتے ہیں۔

### بیع مراہمہ کا اصطلاحی مفہوم:

اصطلاح میں مراہمہ اس بیع کو کہا جاتا ہے جس میں کہ بائع اپنی بیع کی قیمت بتائے اور اس میں لیا جانے والے نفع کی بھی صراحت کرے۔

المراجعة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح<sup>13</sup>

”مراہمہ یہ ہے کہ پہلے عقد میں حاصل کی ہوئی چیز کو پہلی قیمت پر نفع کا اضافہ کر کے بیچنا۔“

<sup>11</sup> أ. د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، (دمشق: دار الفكر، سوربة، الطبعة الرابعة، ١٩٨٥)، ٥: ٣٧٦٦

<sup>12</sup> أبو بكر بن علي الزبيدي، الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري، (بيروت، لبنان: دارالكتب العلمية، ١٣٢٢ هـ)، ٢٨٤:٢

<sup>13</sup> الزبيدي، الجوهرة النيرة، ٢: ٢٨٤

(المراوحة) -- (بيع ما ملكه) من العروض

ولو بجهة أو إرث أو وصية أو غصب، فإنه إذا ثمنه (بما قام عليه وبفضل) مؤنة<sup>14</sup>

”مراوحة اس کو کہتے ہیں کہ مملوکہ سامان (جو کہ تحفہ یا وراثت یا وصیت یا غصب یا کسی اور طریقہ سے حاصل ہوا ہو، کہ اس کی قیمت پھر یہی ہوگی) کو جس قیمت پر پڑا ہے اس پر (نفع اور خرچہ) کا اضافہ کر کے بیچنا۔“

### بیع مراوحة کی ضرورت:

جیسا کہ گزشتہ بیان سے واضح ہوا کہ بیع مراوحة عام بیع سے مختلف ہے کہ جس میں بائع پر لازم ہے کہ وہ اپنی لاگت ظاہر کرے تاکہ مشتری کو اس بیع پر اطمینان ہو۔ سوال یہ ہے کہ اس خاص قسم کی بیع کی کیا حاجت ہے؟ جب کہ عام بیع میں لاگت کے اظہار کے بغیر مال بیچا جاسکتا ہے، علامہ مرغینانی حنفی نے اس بیع کی ضرورت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس بیع کی خاص ضرورت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کہ بیع و شراء میں مہارت نہیں رکھتے، تاکہ ان کو خریداری کرتے وقت یہ اطمینان ہو کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر کے غیر معمولی منافع نہیں کمایا جا رہا۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى ويزيادة ربح فوجب القول بجوازهما ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها<sup>15</sup>

”اس قسم کی بیع (مراوحة) کی ضرورت بھی ہے اس لیے کہ غبی آدمی جس کو تجارت کی مہارت نہ ہو اس کو ہوشیار آدمی کے فعل پر اعتماد کی ضرورت پڑتی ہے، جس سے اس کا دل مطمئن ہو کہ اس کی لاگت پر کچھ نفع کے ساتھ اس کو خرید لے۔ اس لیے بیع مراوحة اور بیع تولیہ جائز ہے۔ کیونکہ ان دونوں کی بنیاد امانت پر ہے اور خیانت کے شبہ سے دوری پر ہے۔“

### بیع مراوحة کی شرائط:

اس موقع پر مراوحة کی شرائط کا جان لینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ آجکل کے بینکوں میں رائج مراوحة موجدہ کی تکلیف کرتے ہوئے جانچ لیا جائے کہ کیا اس میں مراوحة کی شرائط مکمل پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ فقہائے کرام نے بیع مراوحة کی درج ذیل شرط بیان کی ہیں:

<sup>14</sup> محمد بن علي بن محمد الحضني الحصكفي الحنفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، (دار الكتب

العلمية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢، ٤٢٤

<sup>15</sup> أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي،

المكتبة الإسلامية، بدون السنة، ٣: ٥٦

۱- یہ ضروری ہے کہ مشتری کو اس بیع کی لاگت معلوم ہو کہ بائع کو یہ چیز کتنے میں پڑی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس میں مشتری کو ثمن اول یعنی بائع کی لاگت کا علم نہ ہو تو یہ بیع ہی فاسد ہے یہاں تک کہ مشتری کو یہ لاگت بتادی جائے تاکہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی خیانت کا احتمال نہ رہے۔

۲- یہ بھی لازم ہے کہ اس بیع پر بائع جتنا نفع حاصل کر رہا ہے وہ مشتری کو معلوم ہو۔

۳- اور یہ کہ اس المال یعنی جس قیمت پر بائع نے خود وہ چیز خریدی تھی وہ مثلی (Homogenous) ہو یعنی کہ مارکیٹ میں اس کا مثل مل جاتا ہو جیسا کہ ناپ کر یا تول کر نیچی جانے والی تمام چیزیں جیسے گندم، چاول، چینی، پیٹرول، دودھ وغیرہ، اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جو کہ گن کر نیچی جاتی ہیں اور باہم تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جیسے انڈے، کیلے وغیرہ۔ لہذا اگر کوئی ایسی چیز کو مراہمہ کے طور پر بیچے جو کہ اس نے کسی غیر مثلی کے عوض خریدی ہو جیسے کہ کسی جانور کے بدلے میں خریدی ہو تو اب اس چیز کو آگے مراہمہ پر بیچنا درست نہ ہو گا اس لیے کہ جانور مثلی اشیاء میں سے نہیں ہے۔ البتہ پیسوں کے بدلے لی گئی چیز میں مراہمہ کرنا درست ہے اس لیے کہ نوٹ مثلی اشیاء (Homogenous goods) میں سے ہے۔

۴- اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ مراہمہ اموال ربویہ میں نہ ہو جیسا کہ 4 کلو گندم کے بدلے میں گندم بیچی جا رہی ہو تو اس میں برابری ہونا ضروری ہے ورنہ اس میں سود کا عنصر شامل ہو جاتا ہے لہذا اب اگر مزید اس 4 کلو گندم کو 4 کلو گندم اور مزید نفع پر فروخت کیا جائے گا تو اس میں ربا شامل ہو جائے گا۔ لہذا مراہمہ صرف ان صورتوں میں ہی جائز ہے کہ جس میں نفع لینے پر سود شامل نہ ہوتا ہو۔

۵- نیز یہ کہ بائع نے وہ بیع کسی فاسد بیع کے ذریعے نہ خریدی ہو بلکہ بیع صحیح ہی کے ذریعے خریدی ہو، اس لیے کہ پہلی بیع کے فاسد ہونے کی صورت میں پہلی ثمن (price) کا علم نہ ہو پائے گا جو کہ بیع مراہمہ میں ہونا ضروری ہے۔<sup>16</sup>  
حکم: یہ بیع ان مذکورہ شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ آپ لاگت پر دس فیصد یا بیس فیصد نفع کہہ کر بیچنے کو جائز قرار دیتے تھے۔

روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يرى بأساً بده يازده، وده دوا زده، أي

كل عشرة رجحها درهم، وكل عشرة رجحها درهمان.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> مذکورہ شرائط کے لیے دیکھیے:

الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت: ۱۴۲۷ھ، الأجزاء، ۲۴-۳۸، (مصر: الطبعة الأولى، مطابع دار الصنوفة، ۱۴۲۷ھ) ۳۶۰: ۳۱۹-الترجيحي، الفقه الإسلامي وأدلته، ۵: ۳۷۶۷

## اسلامی بینکوں میں رائج مراہجہ مَوَجَلہ:

یہ وہ طریقہ تمویل ہے جس کو آج کل اسلامی مالیاتی اداروں میں سودی قرض کے بدیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ سود کی بنیاد پر دیے جانے والے قرضہ کی جگہ فائنانسنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ذیل میں ہم اس کی کچھ تفصیل اور معمول بہ صورتوں کا ذکر کریں گے کہ اس کا استعمال ان مالیاتی اداروں میں کس طرح کیا جاتا ہے؟ اور اس میں ناقدین کے بجائے اس طریقہ کار کے موجدین اور ماہرین کی تحریرات پر انحصار کریں گے اس لیے کہ صاحب الدار ادوی بما فیہ (گھر والا ہی اپنی چیزوں کو زیادہ جانتا ہے)

اسلامی بینکوں میں اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جاتا ہے؟

چونکہ یہ بینک سود سے پاک بینکاری کا دعویٰ کرتے ہیں اور قرض پر حاصل کیے گئے اضافی فائدہ کو سود کہا جاتا ہے، اس لیے یہ ادارے اس کی جگہ بیع مراہجہ کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت محمد ایوب صاحب اپنی کتاب Understanding Islamic Finance میں یوں کرتے ہیں۔

Bai ‘ Murabaha and Credit Sale (Murabaha–Mu’ajjal)

Murabaha as an alternative to interest-based financial transactions assumes importance only when it is transacted on a deferred payment basis. This, therefore, calls for a study of the concept of postponement of payment in Murabaha. The terms of payment in the classical Murabaha did not necessarily involve credit; they could be either cash or credit.<sup>18</sup>

## بیع مراہجہ اور بیع مَوَجَلہ:

مراہجہ سودی تمویل کا متبادل صرف اسی صورت میں بنتا ہے کہ جب اس کو ادھار پر رکھا جائے، لہذا مراہجہ جس میں قیمت ادھار ہو اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ سادہ مراہجہ کا ادھار پر ہونا ضروری نہیں، یہ نقد پر بھی ہو سکتا ہے اور ادھار پر بھی۔

اس عمل کے لیے ایک اور اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کو مراہجہ للآمر بالشراء (Murabaha for

Purchase Order بھی کہتے ہیں، المعلیبیر الشریعہ (AAOIFI Standards) میں اس کے لیے یہی اصطلاح استعمال

کی گئی ہے۔ یعنی خریداری کا حکم کرنے والے شخص کے لیے مراہجہ کرنا۔<sup>19</sup>

<sup>17</sup> ایضاً، ۵: ۳۷۶۶

<sup>18</sup> Muhammad Ayub, **Understanding Islamic Finance**, John Wiley and Sons, 2007, ,pg 219-

دراصل جو مراہمہ اسلامی مالیاتی اداروں میں استعمال کیا جاتا ہے یہ کوئی ایک عقد نہیں بلکہ کئی عقود Contracts پر مشتمل ہے، جس میں وعدہ بھی ہے اور عقد مراہمہ اور عقد وکالت Agreement Agency بھی۔ البتہ آسانی کے لیے اس کو مراہمہ مؤجلہ یا صرف مراہمہ کہہ دیا جاتا ہے۔ ورنہ درحقیقت یہ کئی عقود کا مجموعہ ہے۔ جو کئی مراحل میں مکمل ہوتا ہے۔


### مراہمہ کے مراحل کا Flow Chart

چونکہ مروجہ مراہمہ کئی عقود پر مشتمل ہونے کی وجہ سے گنجلک ہے، اس کی آسان تفہیم کے لیے ذیل میں Flow Chart کی شکل میں اس کے مراحل پیش ہیں تاکہ ترتیب وار ان مراحل کو حل کیا جاسکے۔

#### پہلا مرحلہ کلائنٹ کی عرض اور منظوری: Client requisition and Approval:




دوسرا مرحلہ: اس میں ماسٹر ایگریمنٹ پر سائن کروایا جاتا ہے جس میں سمنده عقود کی تفصیلات اور مکمل ترتیب لکھی ہوتی ہے۔



تیسرا مرحلہ: سامان کا حصول



<sup>19</sup> Shariah Standards for Islamic Financial Institutions, Accounting and Auditing Organization, 2010, pg no.111.



### چوتھا مرحلہ: Murabaha Agreement



### پانچواں مرحلہ:



اس سلسلہ عقود میں اس امر کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ خریدی ہوئی چیز کس کے ضمان میں ہوتی ہے، یعنی کہ کسی بھی موقع پر اگر یہ ہلاک ہو جائے تو یہ کس کا نقصان شمار ہوگا؟ درحقیقت ان عقود میں اس چیز کا ضمان منتقل ہوتا رہتا ہے اور ایک فریق سے دوسرے فریق پر یہ ذمہ داری منتقل ہوتی رہتی ہے۔



### بینک پر ضمان Risk:

بینک اپنی حقیقت کے حساب سے چونکہ تجارتی ادارہ نہیں، اس لیے اسلامی بینکوں کے لیے یہ بات کسی چیلنج سے کم نہیں کہ اپنی اسی وضع میں حقیقی تجارت کا اجراء کر سکیں اور جو چیز ایک عام کاروبار اور بینک یا ایسے کسی مالیاتی اداروں کو ممتاز کرتی ہے وہ ضمان Risk کو سنبھالنے اور برداشت کرنے کی صلاحیت ہے۔

بینک کسی بھی قیمت پر اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ایک بینک کے پاس اپنا مال تو ہوتا نہیں یہ تو دراصل دوسروں ہی کا مال ہے جو کہ اس نے آگے دے کر نفع کماتا ہے۔ لہذا عام کنونشنل Conventional بینکوں کے طریقہ کار میں اس قسم کے Risks نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس طریقہ کار میں صرف قرض کی واپسی کا Risk ہوتا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے وہ انشورنس کمپنی کا سہارا لیتے ہیں۔ سامان / مال کی خریداری یا اس کے ضائع ہو جانے کا کوئی خوف یا ضمان بینک پر نہیں آتا۔

اسلامی بینکوں میں تجارت کی جن صورتوں کو رائج کی گیا ہے اس میں Conventional Banks کے مقابلے میں Risk زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مراہمہ کرتے ہوئے بینک چونکہ اس مال کا مالک ہوتا ہے لہذا جب تک وہ مال ترسیل کے مرحلہ میں ہوتا ہے اور اپنے اس کسٹمر اور ایجنٹ کو یہ مال فروخت نہیں کر دیتا تب تک اس مال کی ذمہ داری Risk بینک پر ہی رہتا ہے۔ لیکن بینک ہونے کی وجہ سے اس بوجھ اس رسک سے تحفظ کے لیے بھی یہ ادارہ کئی قسم کے حفاظتی اقدامات Precautionary Measures اختیار کرتا ہے۔

اس عقد مراہمہ میں اسلامی بینک پر دو قسم کا ضمان Risk آتا ہے:

- ۱۔ خریدی ہوئی مینج کا ضمان جیسا کہ جدول میں دوسرے حصہ میں،
- ۲۔ عقد مراہمہ کے بعد کسٹمر کی طرف سے عدم ادائیگی Default یا ادائیگی میں تاخیر Late Payment کا خطرہ۔<sup>20</sup>

پہلی صورت کے لیے بینک، انشورنس یا مفکافل سے مدد لیتا ہے اور ممکنہ کسی نقصان کی تلافی مفکافل کمپنی سے وصول کرتا ہے، جیسے کہ کسی مشین کے درآمد Import کرنے میں راستے میں اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے یا خدا نخواستہ بحری جہاز ہی ڈوب جائے تو اس کی تلافی ان کمپنیوں سے کی جاتی ہے، جن کمپنیوں سے اس مال کی یا اس جہاز کا مفکافل کرایا ہوتا ہے۔

<sup>20</sup> مفتی محمد اعجاز صدیقی، اسلامی بینکوں میں رائج مراہمہ کا طریقہ کار، ادارہ اسلامیات، ۲۰۱۰ء، ۵

جب کہ دوسری صورت کے لیے بینک کئی طریقے اختیار کرتا ہے۔

### 1- رہن Pledge

رہن کی قسمیں:

#### Pledge with possession رہن بالقبض

اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک کسٹمر سے کوئی قیمتی چیز اس دین Debt کے بدلے میں رکھ لیتا ہے۔ ایسی صورت میں اس چیز کا مالک کسٹمر ہی رہتا ہے اور اس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری بینک پر ہی آتی ہے۔ لہذا بینک اس کے سیکورٹی چارجز اور گودام کا کرایہ کسٹمر سے وصول نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ ان کا اندازہ لگا کر مرابحہ کے نفع میں سے اس خرچہ کو وصول کیا جاسکتا ہے۔

#### رہن حکمی Said Pledge

اس صورت میں بینک کوئی سامان رہن کے طور پر نہیں رکھتا بلکہ اس کسٹمر کے کچھ اہم کاغذات جیسا کہ اس کے گھر کے یا کاروباری اہم دستاویزات وغیرہ رکھ لیتا ہے کہ کسٹمر ان کے بغیر ان اثاثوں Assets کو بیچ نہیں سکے گا۔

### 2- ہامش جدید Security Deposit

المعايير الشرعية یعنی AAOIFI Standards میں اس کے متعلق یہ اصول لکھے ہیں:

مالیاتی ادارے کے لیے جائز ہے کہ وہ کسٹمر سے معاہدہ کرتے وقت کچھ رقم بطور امانت کے رکھے، یہ دو مقاصد کے لیے لیا جاتا ہے۔ ایک کسٹمر کی مالی حالت کا اندازہ کرنے کے لیے اور اس کی مرابحہ کے دوران ادارے کو ہونے والے کسی ممکنہ نقصان کی تلافی کے لیے۔

یہ Security Deposit ایسا کوئی ڈپازٹ نہیں جو کہ عام بیع میں ابتداءً لیا جاتا ہے اس لیے کہ ابھی تک تو فریقین کے درمیان کوئی بیع منعقد ہی نہیں ہوئی۔ لہذا ابھی اس کی حیثیت محض ایک امانت کی ہوتی ہے، جو کہ کسٹمر کی اجازت کے بغیر نہ ادارہ استعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو انویسٹ کر سکتا ہے۔<sup>21</sup>

<sup>21</sup> المعايير الشرعية، هيئة المحاسبين والمراجعين للمؤسسات المالية، المعيار، ۸، شق: ۲/۵/۳

اگر اس مراہجہ میں ادارے کو کوئی نقصان کسٹمر کے اپنے وعدے کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہو جیسا کہ بیع کے آجانے کے بعد وہ یہ چیز لینے سے رک جائے تو ایسی صورت میں بینک اس رقم سے اپنے اس نقصان واقعی کو پورا کر سکے گا۔

### نقصان امکانی اور نقصان واقعی:

نقصان واقعی اور نقصان امکانی کی وضاحت کے لیے ایک مثال یہ ہے کہ بینک نے مراہجہ کے لیے ایک مشین باہر ملک سے دس لاکھ کی منگوا لی اور کسٹمر نے اپنا وعدہ پورا کرنے سے انکار کر دیا اب جب بینک نے اس کو عام مارکیٹ میں بیچا تو یہ نو لاکھ کی فروخت ہوئی، اس صورت میں بینک اس ہامش جدید سے ایک لاکھ کی کٹوتی کا حق رکھے گا۔ لیکن بینک کو اپنی اس رقم پر Opportunity Cost<sup>22</sup> کو پورا کرنے کا حق نہیں ہوگا، یعنی کہ بینک یہ حساب کرے کہ اگر یہ رقم نہ ڈوبتی اور اس سے سرمایہ کاری کی جاتی تو مارکیٹ ریٹ کے حساب سے کتنا نفع ہوتا، اس پوری رقم کی وصولی اس امانت سے درست نہ ہوگی۔<sup>23</sup>

مراہجہ کے منعقد ہونے کے وقت ادارے کے لیے جائز ہوگا کہ وہ کسٹمر سے ایڈوانس (بیعانہ) لے لے جس کو عربی میں عربون کہتے ہیں۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ سودا ہو جانے کے بعد پیشگی رقم دی جاتی ہے یہ ثمن ہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے سودا فسخ ہونے پر وہ رقم واپس کر دینی چاہیے، اگر نہیں دی تو ناحق مال لینے کا گناہ ہوگا اور حرام کہلائے گا۔ بیعانہ سے متعلق نبی کریم ﷺ کی حدیث میں ہے:

عن زید بن أسلم أن النبي ﷺ أحل العربان في البيع۔<sup>24</sup>

”زید بن اسلمؓ سے روایت کہ آپ ﷺ نے خرید و فروخت میں عربان (ایڈوانس) کو جائز قرار دیا

ہے۔“

### التزام تصدق Imposed Charity

مراہجہ مکمل ہونے کے بعد اگر کسٹمر ادائیگی میں تاخیر کرے اور اقساط وقت پر نہ ملیں تو عام بینکوں میں تو

اس کا آسان حل موجود ہے کہ اس کی تاخیر پر ہر دن کے اعتبار سے جرمانہ لگایا جائے اور Progressive

<sup>22</sup> <https://www.investopedia.com/terms/o/opportunitycost.asp>

<sup>23</sup> مفتی محمد تقی عثمانی، غیر سودی بینکاری، (کراچی: مکتبہ معارف القرآن، مئی ۲۰۰۹ء)، ۲۲۴

<sup>24</sup> أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبه العباسي، مصنف لابن أبي شيبه، ۱۱ / ۶۷۱، رقم: ۲۳۶۵۶۔

Compound Interest اس پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔

لیکن اسلامی بینکوں نے اس سود سے بچنے کے لیے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا کہ Master Murabaha Agreement میں کسٹمر سے ایک نذر منوائی جائے جس میں وہ یہ لکھے کہ کہ اگر میں بینک کو اقساط کی بروقت ادائیگی نہ کروں اور بینک کی طرف سے اس نذر کا مطالبہ کیا جائے تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں اتنی طے شدہ رقم بینک ہی کے زیر انتظام ایک خیراتی ادارے میں جمع کراؤں گا۔

لہذا اس حل کا فائدہ صرف یہ ہے کہ اس سے کسٹمر پر ایک قسم کا بوجھ رہتا ہے کہ وہ اپنی اقساط وقت پر ادا کرے اور ایک دفعہ یہ واجب ہو جائے تو یہ بینک کے معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا اس لیے کہ نذر حق اللہ ہے نہ کہ حق العبد، لہذا نذر ماننے کے بعد تو یہ کسٹمر اللہ تعالیٰ کا حق اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اس لیے بینک اس کو معاف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔

اس حل کی شرعی حیثیت کے لحاظ سے گفتگو تو اگلے مرحلہ میں آئیگی، البتہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مالی جرمانہ سے بچ کر مدیون کو پابند کرنے کی یہ تدبیر فقہ حنفی کے بجائے فقہ مالکی سے لی گئی ہے۔

مروجہ اسلامی بینکاری کو ناجائز کہنے والے علماء کے اعتراضات:

اسلامی بینکوں میں رائج مراہجہ کے اس طریقہ کار پر علماء کی ایک بڑی جماعت کو بہت سے تحفظات ہیں۔ اس جماعت میں ہر مسلک کے کئی علماء شامل ہیں، انہوں نے مراہجہ کے اس طریقے پر کئی نوعیت کے اشکالات کیے ہیں۔

کیا یہ مثالی تمویلی طریقہ ہے؟

اس طریقہ کار کے بعض مجوزین اس مراہجہ مؤجلہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

”اسلامی بینکاری اپنے بنیادی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہی۔۔۔ نہ ہی مشارکہ کی طرف کسی قسم کی پیش رفت کی قابل ذکر کوششیں موجود ہیں۔۔۔ مراہجہ اجارہ وغیرہ کا استعمال بھی روایتی معیارات LIBOR وغیرہ کے ”فریم ورک“ میں ہوتا ہے جس کا آخری نتیجہ مادی طور پر سودی معاملے سے مختلف نہیں ہوتا۔۔۔ بعض اسلامی

بینکوں میں یہ بات محسوس کی گئی ہے کہ ان میں مروجہ اجارہ کو بھی ان کے شرعاً مطلوب طریق کار کے مطابق اختیار نہیں کیا جاتا۔<sup>25</sup>

لہذا اس کو سرمایہ کاری کے لیے بنیاد بنا کر اسلامی بینکاری کی عمارت کو اس پر کھڑا کرنا اس عمارت کے گرنے کو دعوت دینا ہے۔

### صفات فی صفتہ۔۔ ماسٹر مروجہ میں کئی عقود کا جمع ہونا:

احادیث نبویہ ﷺ میں یہ بات صراحت سے ملتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک عقد میں کئی عقود کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے، آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: "نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفتين في صفة واحدة"<sup>26</sup>

”رسول اللہ ﷺ نے ایک ہی معاملہ میں کئی معاملات کے جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔“

یعنی کہ ایک عقد کرتے ہوئے دوسرے عقد کو اس کے لیے شرط قرار دینا کہ اگر دوسرا عقد مکمل ہو گا تو پہلا عقد کا پورا کرنا قاعدین پر لازم ہو گا، ورنہ نہیں، یہ جائز نہیں بلکہ ہر عقد Transaction کو دوسرے سے ممتاز اور علیحدہ ہونا چاہیے تاکہ عقود میں شفافیت غالب رہے۔

مذکورہ مروجہ ماسٹر میں یا Facility Agreement / Master Agreement میں جو امور طے کیے جاتے ہیں وہ دراصل ایک ہی عقد مروجہ میں کئی عقود جس میں مروجہ، وکالت Agency Agreement، وغیرہ طے پاتے ہیں، اور ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں کہ اس پورے طریقہ کار میں اصل یہی Facility Agreement ہے۔

رиск (Risk) کہاں ہے! ہامش جدیدہ اور تکافل کے ذریعے اس سے حفاظت کی گئی ہے۔۔۔

مروجہ ماسٹر کو عام سودی قرضوں سے ممتاز کرنے کے لیے اس بات کو بہ زور کہا جاتا ہے کہ سودی قرضوں میں کسی بھی چیز کا رиск اور ذمہ داری بینک پر لازم نہیں آتی بلکہ بینک کو اپنے دیئے ہوئے پیسوں سے غرض

<sup>25</sup> اسلامی بینکاری کی بنیادیں، حقیقت پسندانہ جائزہ، بحوالہ مروجہ اسلامی بینکاری از رفعتی دارالافتاء، (کراچی: بنوری ٹاؤن، مکتبہ

بینات، ۲۰۰۸ء)، ۲۸۳

<sup>26</sup> احمد بن حنبل، مسند احمد، مؤسسة الرسالۃ، الطبعة الثانیة، ۱۹۹۹م، ۶: ۳۲۳

ہوتی ہے کہ یہ کب اور کیسے واپس ملتے ہیں! اس کے برخلاف غیر سودی بینکوں میں چونکہ بینک خود ان چیزوں کا خریدار ہوتا ہے اس لیے ان اشیاء کی ذمہ داری اور Risk بینک پر آتا ہے۔<sup>27</sup>

نیز بینک پر عدم ادائیگی یا تاخیر ادائیگی کا خطرہ بھی ہر وقت رہتا ہے۔۔ لیکن اس صورت حال کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ اگر سودی قرضوں اور مراہجہ میں یہی فرق ہے تو بینک نے ان Risks سے بچنے کے لیے بھی تدابیر سوچی ہوئی ہیں اور بینک کو ان مقدس خطرات سے بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ عدم ادائیگی کے خطرے کے لیے بینک مراہجہ کرتے وقت ہی ہامش جدید Security Deposit وصول کر لیتا ہے یا کوئی رہن Pledge اپنے پاس رکھ لیتا ہے، نیز التزام تصدق بھی اسی خطرے سے بچنے کے لیے کروایا جاتا ہے۔<sup>28</sup>

اور دوسرا رسک یعنی کہ بینک کی خریدی ہوئی چیز کا رسک تو اس کے لیے بھی بینک نے تکافل کا راستہ اپنایا ہوا ہے کہ بینک خریدنے کے بعد اگر یہ چیز ہلاک ہو جائے تو یہ تمام نقصان تکافل کمپنی سے پورا کروایا جاتا ہے۔  
الغرض غیر سودی بینک کی طرح اسلامی بینک کسی قسم کا ذمہ نہیں لیتا بلکہ کاغذات کی حد تک بیج و شراہ ہوتی ہے اور نقصان کی صورت میں ضمان بینک کو بھرنے نہیں پڑتا۔

### کابور شرح سود اور سود سے مشابہت:

یہ اس طریقہ تمویل کی وہ خرابی ہے جو کہ مجوزین کے نزدیک مسلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس عقد میں نفع کو شرح سود کے ذریعے سے متعین کرنا، مراہجہ میں بینک اور کسٹمر کا معاہدہ اس شق پر ہوتا ہے۔  
Cost of the goods+ KIBOR (Karachi Inter Bank Official Rate)+1  
اس میں یہ کابور وہی شرح Percentage ہے جو کہ کنونشنل بینک اپنے کسٹمر سے بطور سود کے چارج کرتا ہے۔ تو گویا کہ اسلامی بینک بھی اسی شرح کے حساب سے اپنے کسٹمر سے نفع لیتا ہے۔ اس کے بارے میں مفتی محمد تقی عثمانی کی رائے یہ ہے کہ:

”اس میں کوئی شک نہیں کہ حلال منافع کے تعین کے لیے سود کی شرح کا استعمال پسندیدہ نہیں اور اس سے معاملہ کم از کم ظاہری طور پر سودی قرضے کے مشابہ بن جاتا ہے اور سود کی شدید حرمت کے پیش نظر اس

<sup>27</sup> صدائی، اسلامی بینکوں میں رائج مراہجہ کا طریقہ کار، ۵۰

<sup>28</sup> حافظ ذوالفقار علی، اسلامی بینکاری کی حقیقت، (لاہور: دارالحدیث السلفیہ، اگست ۲۰۰۸ء)، ۱۲

ظاہری مشابہت سے بھی جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے لیکن۔۔۔ شرح سود کو بطور حوالہ استعمال کرنے سے یہ عقد غیر صحیح اور حرام نہیں بن جائے گا، اس لیے کہ معاملہ خود سود پر مشتمل نہیں۔“<sup>29</sup>

### ماسٹر مراضہ ایگریمنٹ میں کیے جانے والے وعدوں کو قضاء لازم قرار دینا:

ماسٹر مراضہ ایگریمنٹ جس کی بنیاد پر یہ تمام عمل وجود میں آتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی حیثیت محض وعدہ کی ہے اور اس موقع پر عقد مراضہ منعقد Execute نہیں ہوتا، لیکن اس میں یہ اشکال ہے کہ اگر کوئی کسٹمر یہ وعدہ کر کے پھر یہ عقد مراضہ نہ کرنا چاہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، کیا اس پر بینک پر آنے والا نقصان ڈالا جاتا ہے؟<sup>30</sup>

ایسی صورت میں بینک اپنے اس کسٹمر سے اپنا واقعی نقصان پورا کرتا ہے، یعنی کہ وعدہ پورا نہ کرنے کی دنیاوی مالی سزا اس کو دی جاتی ہے، سوال یہ ہے کہ بینک کو اس کا اختیار کس نے دیا جب کہ وعدہ کے بارے میں حنفی علماء کا نظریہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا کیا ہوا وعدہ نہ نبھائے تو اخروی پکڑ سے تو نہیں بچ سکتا البتہ اس کے خلاف کوئی قانونی جارہ جوئی نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ موسوعہ فقہیہ کویتہ میں ہے:

القول الخامس : أن إنجاز الوعد المجرد غير واجب ، أما الوعد المعلق على شرط ، فإنه يكون لازماً ، وهو مذهب الحنفية ، حيث نقل ابن نجيم عن القنية : لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقاً وفي الفتاوى البزازية : أن المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة.

ونصت المادة (٨٤) من مجلة الأحكام العدلية : المواعيد بصور التعليق تكون لازمة .

مثال ذلك : لو قال شخص لآخر : ادفع ديني من مالك ، فوعده الرجل بذلك ، ثم امتنع عن الأداء ، فإنه لا يلزم الواعد بأداء الدين ، أما قول رجل لآخر : بع هذا الشيء لفلان ، وإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيه لك ، فلم يعط المشتري الثمن ، لزم المواعد أداء الثمن المذكور بناء على وعدة<sup>31</sup>

”پانچواں قول: یہ ہے کہ ایسا وعدہ جو کہ کسی شرط پر معلق نہ ہو وہ لازم نہیں، اور اگر کوئی وعدہ کسی شرط پر موقوف ہو تو ایسا وعدہ لازم ہو جاتا ہے یہی احناف کا مذہب ہے ابن نجیم نے قنیہ نامی کتاب سے نقل کرتے ہیں کہ

<sup>29</sup> اسلامی بینکاری کی بنیادیں ترجمہ An Introduction to Islamic Finance، ۲۰۰۸ء، ۱۲۴

<sup>30</sup> رفقائے دارالافتاء، بنوری ٹاؤن، مروجہ اسلامی بینکاری، (کراچی: مکتبہ بینات، ۲۰۰۸ء)، ۲۷۵

<sup>31</sup> الموسوعة الفقهية الكويتية، ۴۴: ۷۵

وعدہ اسی وقت لازم ہوتا ہے جب کہ معلق ہو اور فتویٰ بزازیہ میں لکھا ہے کہ وعدے جب کہ تعلیق کی صورت میں ہو تو لازم ہو جاتے ہیں۔

مجلیہ الاحکام العدلیہ کے جزو نمبر 84 میں ہے کہ: وعدے شرط کی صورت میں ہوں تو لازم ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہے کہ اپنے مال میں سے میرا قرض ادا کر دو تو دوسرا شخص اس کا وعدہ کر لے پھر ادائیگی سے رک جائے تو اس پر اس دین کی ادائیگی لازم نہ ہوگی، البتہ اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ یہ چیز فلاں شخص کو دے دو اگر وہ تم کو اس کی قیمت ادا نہ کرے تو میں ادا کرونگا، پھر وہ خریدار قیمت ادا نہ کرے تو اس پر قیمت کی ادائیگی اپنے وعدے کی بنیاد پر لازم ہو جائے گی۔“

لہذا یہ وعدہ جو کہ Facility Agreement میں کیا جاتا ہے اس کو قضاء لازم قرار دینا درست نہیں۔

### بیع الکالی بالکالی یعنی سامان بھی ادھار اور قیمت بھی:

مروجہ مراہجہ پر ان اعتراضات میں سے یہ بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ اس پورے عمل میں ایک اور حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم \* أنه نهي عن بيع الكالئ بالكالئ<sup>32</sup>

”حضرت ابن عمرؓ نے آپ ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے ادھار کی بیع ادھار کے مقابلے میں یعنی کہ بیع بھی ادھار ہو اور قیمت بھی، اس سے منع فرمایا ہے۔“

اسلامی بینکوں میں جب ماسٹر ایگریمنٹ میں عقد مراہجہ کیا جاتا ہے تب اس میں نہ قیمت دی جا رہی ہے اور نہ ہی اس وقت مال آیا ہوتا ہے جب کہ اصل عقد مراہجہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔

### مراہجہ مؤجلہ نازک حیلہ ہے:

مراہجہ کا یہ طریقہ ایک نازک طریقہ ہے جو کہ ذرا سی بے احتیاطی اور بے توجہی سے کسی بھی وقت ناجائز معاملہ میں تبدیل ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک نوزائیدہ نظام میں ایسے غیر تربیت یافتہ افراد کے ذریعے اس کو کھلے طور پر رواج دینا خطرناک ہے اور کئی معاملات میں حرام آمدنی کی طرف لے جانے والا ہے۔

<sup>32</sup> محمد بن عبد اللہ أبو عبد اللہ الحاکم النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین، (بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة

أولى، ٥٧:٢٠، (١٩٩٠ء)

اگر کسٹمر پہلے سے اس چیز کا مالک ہو تو مراہجہ مؤجلہ کا یہ معاملہ بیع عینہ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ چونکہ کسٹمر اور اس کے سپلائر کا پہلے ہی آپس میں تعلق ہوتا ہے تو بعض اوقات میں ان کے درمیان اس چیز کے متعلق ایجاب و قبول ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کسٹمر کی ملکیت آچکی ہے، اب اسی مملو کہ چیز کے بارے میں اس طریقہ سے مراہجہ کرنا اس عقد کو بیع عینہ بنا دیتا ہے<sup>33</sup> اور اس غلطی کا وقوع بہت ممکن ہے اس لیے کہ کسٹمر کو اپنا سپلائر خود ہی متعین کرنا ہوتا ہے اور اسی تعین کے بعد ہی وہ بینک میں لمٹ کی منظوری کروانے آتا ہے، بہت ممکن ہے کہ ان کے مابین ایسی گفتگو ہو چکی ہو کہ جس کو فقہی اعتبار سے ایجاب و قبول کہا جاسکتا ہو۔

Agency Agreement کرنے کے بعد کسٹمر ادارے کا وکیل ہے، اب اگر یہ مطلوبہ چیز خریدتے وقت اپنے لیے خریدنے کی نیت کر لے اور بینک کے لیے نہ لے تو یہ خود مالک بن جائے گا اور اس کا بینک سے معاہدہ کرنا پھر بیع عینہ میں داخل ہو جائے گا۔

نیز کسٹمر کے لیے یہ جائز نہیں کہ بینک کے لیے سامان لیتے ہی ایجاب و قبول سے پہلے اس میں تصرف شروع کر دے، خصوصاً جب کہ بڑی مقدار میں مال خریدنا ہو اور اس میں سے کہ کچھ حصہ کی ادائیگی مراہجہ مؤجلہ کے ذریعے سے ہو، ایسی صورت میں اس کا بینک کے حصہ میں تصرف نہ کرنا بہت مشکل ہے۔<sup>34</sup>

بیع عینہ کے بارے حدیث پاک میں مذکور ہے:

عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لئن لکن ترکتم الجہاد وأخذتم بأذنان البقر وتبايعتم بالعینة لیلزمنکم اللہ مذلة فی رقابکم لا تنفک عنکم حتی تتوبوا إلى اللہ وترجعوا علی ما کنتم علیہ<sup>35</sup>

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ: جب تم لوگ جہاد کو چھوڑ دو گے اور گائیوں کی دم پکڑ لو گے یعنی کہ کاشت کاریوں میں مصروف ہو جاؤ گے، اور بیع عینہ کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری گردنوں پر نہ ختم ہونے والی ذلت کو مسلط فرمادیں گے، یہاں تک کہ تم لوگ توبہ کرو اور اپنی پہلی حالت پر لوٹ آؤ۔

**وکیل کا قبضہ کونسا ہے؟**

<sup>33</sup> صدائی، اسلامی بینکوں میں رائج مراہجہ کا طریقہ کار، ۳۹۔

<sup>34</sup> ایضاً، ۳۰۔

<sup>35</sup> احمد بن حنبل، مسند أحمد، ج 9/ص 51۔

اس مراحہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ بیع قبل القبض کا ہے۔ اصول یہ ہے کہ دراصل قبضہ کی دو قسمیں ہیں:

### قبض امان:

اگر کسی شخص کے پاس کسی چیز کا قبضہ بطور امانت کے ہو اور ایسی چیز اس کی غفلت Negligence کے بغیر ضائع ہو جائے تو اس شخص پر اس مال کی ہلاکت کی ذمہ دارہ عائد نہ ہوگی جیسا کہ کوئی شخص کسی کے کہنے پر کوئی چیز خریدے تو اس کے پاس ابھی یہ چیز بطور امانت کے ہوگی۔

### قبض ضمان:

اس صورت میں اگر یہ چیز اس کے پاس ضائع ہوگئی تو اس کی ہلاکت کی ذمہ داری خود اس پر ہوگی خواہ اس کی غفلت ہو یا نہ ہو۔ جیسا کہ کسی شخص نے آپ سے کوئی چیز خرید لی تو اب یہ چیز اس کی ملکیت اور ضمان میں آگئی اب ہلاکت کی ذمہ داری اسکی ہوگی۔ علاوہ سرخسی لکھتے ہیں:

فإن القبض بحکم الشراء قبض ضمان وقبض الأمانة دون قبض الضمان والضعيف لا ينوب عن القوى وكذلك هذا في العارية والإجارة لأن قبض المستعير والمستأجر قبض أمانة كقبض المودع أو أقوى منه.<sup>36</sup>

”خریداری سے حاصل ہونے والا قبضہ ضمان ہوتا ہے اور قبض امانت قبضہ ضمان سے کم درجہ کا ہے تو اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا بلکہ نیا قبضہ کرنا پڑے گا، اسی طرح کرایہ پر لی ہوئی چیز کا بھی یہی حکم ہے، کہ یہ بھی قبضہ امان ہے۔“

عقد مراحہ میں جب بینک کسٹمر کو اپنا وکیل بناتا ہے اور بینک اس کے وکیل کی حیثیت سے خریداری کر لیتا ہے تو ایسی حالت میں کسٹمر یعنی وکیل کے پاس اس مال کی حیثیت امانت کی ہوتی ہے یعنی کہ اگر کسٹمر کی غفلت کے بغیر یہ بیع ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان کسٹمر پر نہیں آئیگا، بینک بھی اسی پر عمل کرتا ہے کہ اس حالت میں اگر یہ ہلاک ہو جائے تو یہ نقصان بینک کا سمجھا جاتا ہے۔

لیکن پھر جب کہ وکیل اس بیع کو بینک سے خریدتا ہے تو اب اس کا یہ قبضہ امان قبضہ ضمان میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی کہ اس ایجاب و قبول کے بعد اگر یہ چیز ہلاک ہو تو یہ نقصان و خسارہ گاہک کے ذمہ آئیگا۔ لیکن جیسا کہ اصول میں گزرا کہ قبضہ ضمان قبضہ امان کا نائب نہیں بن سکتا۔ اس میں عموماً بینک کی جانب سے نہ قبضہ کیا جاتا ہے اور

<sup>36</sup> شمس الدین أبو بکر محمد بن أبي سهل السرخسي، الميسوط، (بيروت، لبنان: دار الفكر، الطبعة الأولى،

نہ ہی یہ چیز بینک کے گودام میں لا کر پھر فروخت کی جاتی ہے۔<sup>37</sup>

## التزام تصدق:

دین کی وصولی کے لیے یہ حل مالکی علماء سے لیا گیا ہے اس میں کئی اعتراضات ہیں مثلاً:  
اس حل میں مالی جرمانہ کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی قرضہ کے تناسب سے بڑھایا جاتا ہے اور مالی جرمانہ اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ مالی جرمانہ کے بارے میں فقہ حنفی میں مذکور ہے:  
والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال-

لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي۔<sup>38</sup>

ترجمہ: غرض یہ کہ مذہب یہ ہے کہ مال کے ذریعہ سے کسی کو سزا دینا درست نہیں۔ آگے لکھتے ہیں: کسی شرعی وجہ کے بغیر مسلمانوں کے لیے کسی کا بھی مال لینا جائز نہیں۔  
اور نگزیب عالمگیر بادشاہ کے زیر نگرانی فتاویٰ کا جو مجموعہ تیار ہوا ”فتاویٰ ہندیہ“ اس میں ہے لکھا ہے:

وعند أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال، وعند باقي الاثمه الثلاثه لا يجوز كذا في فتح القدير ومعنى التعزير بأخذ المال على القول به امسالك شتى من ماله عنده مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم اليه<sup>39</sup>

”امام ابو یوسف کے نزدیک صرف حاکم کے لیے مالی جرمانہ لگانا جائز ہے اور ان کے علاوہ تمام ائمہ کے نزدیک جائز نہیں اور امام ابو یوسف کے ہاں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کچھ مال اپنے پاس رکھ لے تاکہ وہ توبہ کر لے اور پھر واپس لوٹا دے۔“

یہ مسئلہ مالکیہ کے ہاں خود بھی متفق علیہ نہیں، بلکہ ایک مرجوح قول ہے۔ جب کہ ان کا راجح قول یہ ہے کہ صاحب حق کے علاوہ کسی اور فرد یا مساکین کے لیے اپنے اوپر کسی قسم کا التزام کرے تو یہ مالکیہ کے ہاں مشہور قول کے مطابق التزام کرنے والے پر قضاء لازم نہیں ہوتا البتہ مذہب غیر کے کسی مرجوح قول سے دلیل لینا اور اس پر فتویٰ دینا جائز نہیں۔

<sup>37</sup> رفقائے دارالافتاء، (کراچی: بنوری ٹاؤن، مروجہ اسلامی بینکاری، مکتبہ بینات)، ۲۳۵

<sup>38</sup> حاشیہ رد المختار علی الدر المختار. باب التعزير، مطلب في التعزير بأخذ المال، ۱۰۶:۶

<sup>39</sup> جماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية. (دار الفكر، ۱۹۹۱م)، فصل في التعزير، ۱۶۷:۲

## تنگ دست سے نفلی صدقہ کروانا:

مزید یہ کہ تنگ دست آدمی کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی حوائج کو پورا کرے، اپنی ضرورت کے باوجود اس کے لیے نفلی صدقہ مناسب نہیں، چہ جائیکہ اس پر کسی نذر کا التزام کروایا جائے۔ نیز اس میں ایک تنگ دست مقروض سے صدقہ کا التزام کروانا لازم آتا ہے۔ جب کہ حکم یہ ہے کہ تنگ دست کو مہلت دو۔

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>40</sup>

اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو۔

اب ان بینکوں کا اپنے غریب اور نادار مقروضوں کو بجائے مہلت دینے کے ان پر اپنے فنڈ کے لیے صدقہ لازم کروانا کہاں جائز ہو سکتا ہے۔ نیز بینک کے پاس اس فیصلہ کے لیے کیا ترازو ہے کہ یہ مقروض تنگ دست ہے یا باوجود وسعت کے ٹال مٹول کر رہا ہے۔ اور اس معاملہ میں جب کہ بینک خود ایک فریق ہو بینک کو فیصلہ کرنے کا اختیار بھی کیوں ہو سکتا ہے!

## وہ بھی بینک کی زیر نگرانی فنڈ میں کیوں؟

التزام تصدق (Imposed Charity) کے بارے میں مانعین کی جانب سے ایک اہم اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس پورے عمل کا بہر حال فائدہ بینک کو ہی کو پہنچتا ہے، اس لیے کہ بینک کی جانب سے اس کسٹمر سے جو التزام کرایا جاتا ہے مقروض پر یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ یہ صدقہ بینک کے مقرر کردہ فنڈ میں ہی جمع کروائے اور کسی جگہ اس کا صدقہ کر دینا مقبول نہیں ہوتا۔

## اشکالات کا جائزہ اور وضاحتیں:

اب ہم اس طریقہ کار کے موجدین کی جانب سے ان اعتراضات کے دیے جانے والے جوابات کو ذکر کریں گے جس سے اس بات کے سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ معترضین کے اعتراضات کس قدر وزنی تھے اور جس سقم

<sup>40</sup> البقرہ: ۲۸۰

کی نشاندہی اس میں کی گئی اس کے بارے میں مجوزین حضرات کی کیا رائے ہے آیا وہ ان خرابیوں کو تسلیم کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں یا کہ ان اعتراضات ہی کو واقع کے خلاف کہہ کر ان کو رد کرتے ہیں۔  
مراہجہ مثالی تمویلی طریقہ ہے:

مفتی ثاقب الدین نے اس اعتراض کا جواب مفتی محمد تقی عثمانی سے یوں نقل کیا ہے کہ:

الزامی جواب: حضرت مولانا مدظلہم نے خود ہی الزامی جواب بھی دیا اور فرمایا:

اگر میں مراہجہ کے اس طریقہ کو تمویلی طریقہ نہ مانتا تو اس پر پورا باب کیوں لکھتا

تحقیقی جواب: مراہجہ کا استعمال بطور تمویل اسلامی بینک کر سکتا ہے البتہ اس کا بطور تمویل استعمال کرنے

کی صورت میں چند خصوصیات کی رعایت کرنا ضروری ہے۔۔۔<sup>41</sup>

نیز مذکورہ اعلامیہ جس میں کہ مفتی محمد تقی عثمانی کی جانب سے موجودہ کی جانے والی اسلامی بینکاری پر عدم اعتماد

کا اظہار کیا گیا ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے خود فرماتے ہیں کہ:

”یہ میرا کوئی انٹرویو نہیں تھا بلکہ یہ مکہ مکرمہ میں کی جانے والی کوئی گفتگو ہے جو کہ بعض لوگوں نے ٹیپ

کر لی، اس گفتگو سے میری مراد وہ ہرگز نہ تھی جو کہ لوگوں نے سمجھی، اور میں نے پریکٹس میں جو طریقہ رائج ہے اس کے بارے میں بات کی تھی اس کے تمویلی طریقوں کی شرعی حیثیت پر کسی قسم کا اعتراض مقصود نہ تھا۔“<sup>42</sup>

### کئی عقود کا ایک عقد میں جمع ہونا:

مراہجہ کے اس مجوزہ طریقے میں کئی عقود جمع ہی نہیں ہوتے بلکہ ہر عقد اپنے اپنے وقت پر ادا ہوتا ہے،

جیسا کہ پہلے سے ہی Facility Agreement میں طے کیا جاتا ہے۔ چونکہ بینک کو ایک ہی کلائنٹ سے مراہجہ کے

طور پر خریداری کئی مرتبہ کرنی ہوتی ہے اس لیے اس کے شرائط و ضوابط ایک ہی مرتبہ طے کر لی جاتی ہیں، اور آئندہ

جب بھی عقد ہو تو اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے، یہ خود مستقل عقد نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ کلائنٹ

ماسٹر ایگریمنٹ پر دستخط کرنے کے بعد کچھ بھی نہ خریدے۔<sup>43</sup>

<sup>41</sup> مفتی ثاقب الدین، اسلامی بینکاری اور متفقہ فتوے کا تجزیہ، 280، www.deeneislam.com

<sup>42</sup> عثمانی، غیر سودی بینکاری، ۳۰

<sup>43</sup> ایضاً، ۲۱

**تبصرہ:**

Facility Agreement میں ان عقود کا طے ہونا اور پھر ایک دوسرے سے مربوط ہونا ہی اس کو اس درجہ میں پہنچا دیتا ہے کہ ایک عقد دوسرے عقد کے لیے شرط کے درجہ میں بن جاتا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے عام بیع میں کوئی ایسی شرط لگانے سے منع فرمایا ہے کہ جو کہ عقد اول کے موافق نہ ہو۔

**بینک کا بیع کے ضمان کو قبول کرنا:**

اس میں ان کی جانب سے جواب واضح ہے کہ اس ہامش جدیدہ اور تکافل کا لینا اس بات کی واقعی دلیل ہے کہ بینک پر اس مال کا ضمان Risk آتا ہے، تب ہی تو یہ ان صورتوں کے ذریعے دوسرے اداروں پر جیسا کہ تکافل کمپنی پر شفٹ کر دیتا ہے۔<sup>44</sup>

**تبصرہ:**

تکافل کا مسئلہ بھی ایسا ہی مختلف فیہ ہے جیسا کہ خود اسلامی بینکاری کا مسئلہ ہے۔ لہذا تکافل خود فی نفسہ معتبر نہیں۔

**شرح سود کو معیار Benchmark بنانا:**

بلاشبہ اسلامی بینک کا اپنے نفع کے تعین کے لیے شرح سود کو معیار بنانا پسندیدہ نہیں کیونکہ سطحی نظر سے دیکھنے والا شخص ان دونوں کے درمیان فرق نہیں سمجھ پاتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر بیع کے اندر اس کی تمام شرائط پوری کر دی جائیں تو محض نفع کے تعین کے لیے شرح سود کو بیچ مارک کے طور پر استعمال کرنے سے عقد ناجائز نہیں ہوا۔<sup>45</sup>

ایک اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلامی بینکوں کی حیثیت عام دکانوں کی طرح نہیں ہوتی کہ جتنا جی میں آئے اتنا نفع لے بلکہ یہ بینک بھی فنانس مارکیٹ (Market Financial) کا حصہ ہیں، جس میں کہ نقد کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ اور یہ مارکیٹ معاشی نقطہ نظر سے (Competitive Market) ہے اس میں بائع (Price Makers) نہیں بلکہ (Price

<sup>44</sup> صدائی، اسلامی بینکوں میں رائج مروجہ کا طریقہ کار، ۶۰

<sup>45</sup> ایضاً، ۱۰۹

(Takers) ہوتے ہیں<sup>46</sup>، یعنی کہ یہ ایسی مارکیٹ ہے کہ جس میں کوئی بھی بائع اپنی مرضی کے ریٹ نہیں لگا سکتا بلکہ اس میں اس کو مارکیٹ کے لگائے ہوئے ریٹ کی اتباع ہی کرنی پڑتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اتنے بائع ہیں کہ اگر یہ قیمت اس سے تھوڑی سی بھی زیادہ کرے گا تو مشتری اس کے پاس سے ہٹ کر دوسروں کے پاس چلے جائیں گے اور اس کا (Market Share) کم ہو جائے گا اور اگر یہ اس قیمت سے کم کرے تو اس کو اپنا نقصان کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اسلامی بینک بھی اب تک اسی روایتی بینکوں کے طے شدہ ریٹ پر ہی ان صارفین کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اور جب تک کہ سارے اسلامی بینک مل کر بھی اس مارکیٹ میں اس قدر حصہ حاصل نہیں کر لیتے تب تک وہ اس میں اپنا کوئی ریٹ نہیں چلا سکتے۔ آئندہ کے لیے ایک اسلامی شرح منافع کو بھی عمل میں لانے کا لائحہ تیار کیا جا رہا ہے۔

### تبصرہ:

اس معیار کو اختیار کرنے کی وجہ جو بھی ہو لیکن ایک خالص سودی معیار کو اسلامی عقد کے لیے بنیاد قرار دینا اور اسے مد نظر رکھنا لوگوں کو سودی نظام کے اصل ہونے کا اشارہ دیتا ہے۔ لہذا اس (Benchmark) کے نام اور مشابہت کا چھوڑنا لازم ہے۔

### وعدہ کو لازم قرار دینا:

چونکہ بینک عام دکانداروں کی طرح کہ سامان رکھ کر بیٹھ جائے اور آنے والے گاہکوں کو بیچتا ہے بلکہ وہ صرف اس وقت سامان خریدتا ہے جب کہ کوئی کسٹمر اس کے سامنے یہ ارادہ ظاہر کرتا ہے کہ میں آپ کے ذریعے سامان خریدنا چاہتا ہوں اس لیے بینک اس سے وعدہ لیتا ہے کہ تم اس سامان کو ضرور خریدو گے۔<sup>47</sup> جہاں تک اس کے پورا کرنے کا تعلق ہے تو اس بارے میں تو سب فقہاء کا اجماع ہے کہ وعدہ کو پورا کرنا مکرم اخلاق میں سے ہے۔ اور بہت سے فقہاء حنفیہ نے ضرورت کے وقت وعدہ کو قضاء یعنی بذریعہ عدالت بھی پورا کرایا جاسکتا ہے<sup>48</sup>، اس مسئلہ کے حل کو بھی فقہ مالکی سے لیا گیا ہے۔<sup>49</sup>

<sup>46</sup> [http://www.economicsonline.co.uk/Competitive\\_markets/Competitive\\_markets.html](http://www.economicsonline.co.uk/Competitive_markets/Competitive_markets.html)

<sup>47</sup> صدیقی، اسلامی بینکوں میں رائج مریحہ کا طریقہ کار، ۱۲۹

<sup>48</sup> تفصیل کے لیے دیکھیے: مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، قاموس الفقہ، (کراچی، پاکستان: زمزم پبلشرز اردو بازار، ۲۰۱۱ء)، ۵: ۲۹۲

<sup>49</sup> عثمانی، غیر سودی بینکاری، ۱۵۸

## بیع الکیلی بالکیلی سامان بھی ادھار اور قیمت بھی:

مراہے کی اس مروجہ صورت میں بیع الکیلی بالکیلی کی صورت کسی طرح صادق نہیں آتی اس لیے کہ جس موقع پر Facility Agreement کیا جاتا ہے اس موقع پر کسی قسم کی بیع منعقد نہیں ہوتی نہ ہی مراہے اس موقع پر Execute ہوتا ہے، بلکہ اس موقع پر تو آئندہ کی جانے والی عقود کرنے کا وعدہ کیا جاتا ہے، اور جب یہ بیع ہی نہیں تو اس میں بیع الکیلی بالکیلی کا اعتراض کیسے کیا جاسکتا ہے۔

## مراہے کا یہ طریقہ ایک نازک اور خطرناک حیلہ ہے:

مراہے کو بطور تمویل (Financing) کے اختیار کرنے کو حیلہ کہنے میں بھی دورائے ہیں:

- بعض مجوزین نے تو اس کو حیلہ ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے گویا کہ مراہے کا یہ طریقہ بھی درحقیقت ایک مشروع (یعنی شریعت میں بیان کیا گیا) طریقہ ہے جس کے ذریعہ سے بھی تمویل کی جاسکتی ہے۔<sup>50</sup>
- دوسری رائے مفتی تقی عثمانی کی ہے جو کہ انہوں نے اپنی کتاب غیر سودی بینکاری میں مفصل ذکر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ مراہے کا مذکورہ طریقہ سودی قرضہ سے بچنے کے لیے ایک حل اختیار کیا گیا ہے کہ جس میں کہ بیع کے ذریعے سے سودی قرضہ سے بچا جاتا ہے اور دونوں فریقین کے درمیان کیا جانے والا معاہدہ حد جواز میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جائز حیلہ ہے، لیکن اس جگہ حیلے کے بارے میں شرعی اصول کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ حیلوں کو مندرجہ ذیل تین قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

”وہ حیلے جن کا کرنا بھی ناجائز ہے اور اگر کوئی کرے تو ان کا اثر بھی ظاہر نہ ہو گا جو ان کا مقصود ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کہ کسی حرام چیز کی حقیقت میں تبدیلی لائے بغیر صرف ظاہری صورت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جیسا کہ یہودیوں کا حرام کردہ چربی کو پگھلا کر استعمال کرنا۔

حیلوں کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں حیلہ کرنے والے کو اپنی بد نیتی کرنے کا گناہ ہوتا ہے لیکن اس نے جو گناہ کیا ہے اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے جیسا کہ کوئی شخص سال مکمل ہونے سے پہلے اپنا مال اپنی بیوی کو ہبہ کر دے تاکہ اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو، اس صورت میں اس کو زکوٰۃ سے فرار حاصل کرنے کا گناہ ہو گا لیکن اس کے اس مال پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔

<sup>50</sup> مفتی ثاقب الدین، اسلامی بینکاری اور متفقہ فتوے کا تجزیہ، 261، www.deeneislam.com

حیلہ کی تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں حیلہ کرنا گناہ بھی نہیں ہوتا اور اس حیلہ کا شرعی اثر بھی ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے حیلہ کیا گیا تھا وہ مقصد بھی جائز طور پر حاصل ہو جاتا ہے۔ فقہائے احناف نے جو حیلے ذکر فرمائے ہیں وہ اسی قسم میں داخل ہیں۔<sup>51</sup>

مزید لکھتے ہیں:

”اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ربا سے بچنے کے لیے اگر کوئی جائز حیلہ اختیار کیا جائے تو اس کو فقہائے حنفیہ نے بالکل جائز قرار دیا ہے۔ غیر سودی بینکاری میں کوئی ایسا حیلہ نہیں ہوتا جسے بیع عینہ کہا جاسکے یہاں تک کہ قلب الدین کے جو حیلے اوپر صراحۃً امام ابو حنیفہ اور امام محمد سے منقول ہیں، انہیں بھی غیر سودی بینکاری میں استعمال نہیں کیا جاتا، جو حیلے اختیار کیے گئے ہیں وہ سب شرعی جواز کی حدود میں رہ کر ہی اختیار کیے گئے ہیں اور انہیں ناجائز قرار دینا فقہائے کرام کی مذکورہ بالا تصریحات کی روشنی میں درست نہیں۔“<sup>52</sup>

مذکورہ بالا عبارتوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اسلامی بینکاری میں اختیار کیا جانے والا حیلہ دراصل ربا سے بچنے کے لیے اختیار کیا جانے والا ایک جائز حیلہ ہے اگرچہ اس کا جواز کی حدود میں آجانا بھی ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے، لیکن اس کا معمول بنانے اور پورے نظام کو اس پر لانے میں یہ خدشات ضرور ہیں:

- لوگ اصل کو چھوڑ کر انہی حیلوں کو اصل سمجھ کر اختیار کرنے لگیں اور اصل کا ذکر ہی متروک ہو جائے، جیسا کہ اسلامی بینکاری میں اصل شرکت اور مضاربت کا حجم معدوم نہیں تو بہت کم ضرور ہے۔
- نیز متفرقین کا ایک ایسا طبقہ جو اب تک سود کی مشابہت سے بھی بچنے کی کوشش کر رہا تھا وہ بھی اس میں شامل ہو گا اور متفرقین اور عوام کا فرق ختم ہو جائے گا۔
- جو حیلہ ایسا ہو کہ اس سے عوام کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو وہ بھی حرام ہے جیسے سود سے بچنے کے ایسے حیلے جن سے لوگ سود ہی کو حلال سمجھنے لگیں حرام ہے۔

## التزام تصدق

تنگ دست مدیون کو تو مہلت دینی چاہیے:

<sup>51</sup> عثمانی، غیر سودی بینکاری، ۱۷۶-۱۷۸

<sup>52</sup> ایضاً، ۲۰۸

اسلامی بینک Master/Facility agreement میں التزام تصدق کی یہ شق لکھتا ضرور ہے لیکن حتی الوسع اس التزام تصدق کی شق کو استعمال نہیں کرتا، تاکہ اس کا اپنا کسٹمر آئینہ کے لیے اس سے معاملات بند نہ کر دے اور کسی بھی صورت میں اس کا کسٹمر اس کو باور کرادے کہ وہ واقعہ تنگ دست ہے اور فی الحال اس کو ادائیگی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو بینک اس پر چیرٹی کال (اس تصدق کو لازم) نہیں کرتا۔

اسلامی بینکوں میں چیرٹی کال صرف حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ہی کرائی جاتی ہے کہ اس میں لاکھوں لوگوں کی جمع پونجی جمع ہوتی ہے<sup>53</sup>، اور ایسا کوئی بھی التزام Undertaking جو کہ کسی حق العباد کی ادائیگی کی یقین دہانی کے لیے کرایا جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے عدالت کا سہارا بھی لیا جاسکتا ہے، البتہ ایک شخص کا وہ التزام جو کہ وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کرونگا تو اس کی ادائیگی میں اس پر کسی عدالت کی جانب سے پابندی عائد نہیں کی جائے گی اور یہاں اسلامی بینکاری میں اپنے لیے نہیں بلکہ صاحب حق کے حق کی ادائیگی کے لیے کرایا جاتا ہے۔<sup>54</sup>

#### ملاحظہ:

جب کہ بینک خود ایک فریق ہے یعنی ہوائے صورت میں بلا کسی ثالث کے وہ کیسے مدیون کے عذر کو قبول کر سکتا ہے۔ نیز بہر حال مالی جرمانہ کی کوئی صورت تو ہر معاملہ میں اختیار کی جاتی ہے اگرچہ اس کا استعمال نہ ہوتا ہو اور اس تصدق کی نوبت نہ آتی ہو، لیکن Contract میں اس مالی جرمانہ کی ایک صورت کی Clause (شق) تو ڈالی ہی جاتی ہے۔

#### مذہب غیر سے التزام تصدق کا حل:

شروع میں جب اسلامی بینکاری کا اجراء ہوا تو ایسی کوئی شرط نہیں تھی، تو لوگوں کی بھاری رقیبیں واجب الاداء تھیں لوگوں نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا لہذا التزام تصدق کے حل کو مالکی مذہب سے صرف اس مجبوری کی وجہ سے لیا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مدیون ممالین (نال مثول کرنے والے مقرضوں) کی بڑی کثرت ہے، اچھے اچھے لوگ بھی قرضہ ادا نہیں کرتے، نیز عدالتوں سے بھی بروقت انصاف کی امید نہیں، لہذا ایسی مجبوری کی حالت میں ہی مدیون سے صدقہ کا التزام (Undertaking) کرایا جاتا ہے۔ یہ حل محض سہولت کے حصول کے لیے نہیں لیا گیا جیسا کہ مفقود الزون (جس کا شوہر

<sup>53</sup> عثمانی، غیر سودی بینکاری، ۲۷۷

<sup>54</sup> صدیقی، اسلامی بینکوں میں رائج مراعات کا طریقہ کار، ۱۱۷-۱۲۱

غائب ہو جائے) ایسی عورت کے مسئلہ کے حل کے لیے بھی فقہ حنفی کو چھوڑ کر جمہور علماء نے مالکی مذہب سے حل لیا ہے۔ مفتی تفتی عثمانی اپنی کتاب غیر سودی بینکاری میں فرماتے ہیں:

”خروج عن المذہب اس صورت میں ہوتا ہے کہ حنفی فقہ میں کسی چیز کے عدم جواز کی صراحت موجود ہو اور پھر اور کسی مذہب سے جواز کا حکم نکالا جائے اور اگر اپنے مذہب میں کوئی مسئلہ صراحتاً مذکور نہ ہو یا اس کا اپنے مذہب کے کسی قاعدے کے عموم میں داخل ہونا ممکن یا مسکوت عنہ ہو اور کسی دوسرے مذہب میں اسکی صراحت مل جائے تو اس صورت میں اس مذہب میں استمداد صحیح معنی میں خروج عن المذہب نہیں ہے۔“<sup>55</sup>

آگے لکھتے ہیں:

”اگر بالفرض اس مسئلے کو حنفی مسلک کے خلاف سمجھا جائے تو بعض مالکی علماء کا قول موثوق علماء نے باہمی مشورے سے لیا ہے اور ضرورت کے وقت کسی دوسرے مذہب سے کوئی مسئلہ لینا کوئی ایسا شجرہ ممنوعہ نہیں جو کسی حالت میں جائز نہ ہو۔“<sup>56</sup>

”آگے کئی ایسی مثالیں ذکر فرمائی گئی ہیں جس میں کہ متاخرین علماء نے اس مسئلہ میں کئی دوسرے مذہب سے مسئلہ لیا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے یہ مسئلہ انفرادی رائے سے نہیں بلکہ ایک فقہی مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کے اجلاس میں پیش ہوا اور اس کی قرارداد معمولی اختلاف کے ساتھ منظور ہوئی۔“<sup>57</sup>

### تبصرہ:

مدیون ممالین یعنی ٹال منول کرنے والے مقرضوں کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو اس صدقہ کے طریقہ سے پابند کیا جائے بلکہ اس کا پائیدار اور اصل حل یہ ہے کہ مدیون کو خدا خونی کا درس دے کر اس کی اس بری عادت کو ختم کیا جائے۔ نیز مذہب غیر سے عند الضرورہ مسئلہ لینا درست ہے لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، گزشتہ صدی میں جب فقہ مالکی سے مذکورہ مسئلہ کا حل لیا گیا تو ہندوستان بھر کے اکابر علماء اور مفتیاں کرام کی آراء اور اہل مذہب مالکی سے اس مسئلہ کی مکمل تحقیق کے بعد اس مسئلہ پر عمل کیا گیا۔ کیا ایسا ہی اہتمام اس مذکورہ شق کو اختیار کرتے ہوئے بھی کیا گیا ہے؟ اس کا جواب نفی میں نہ ہو تو اثبات میں بھی مشکل ہے۔

<sup>55</sup> عثمانی، غیر سودی بینکاری، ۲۸۱

<sup>56</sup> ایضاً، ۲۸۳

<sup>57</sup> ایضاً، ۲۹۵

## نتیجہ بحث:

گزشتہ سطور میں مراہمہ مؤجلہ کے طریقہ سے متعلق فریقین یعنی اس کے مجوزین اور مانعین علماء کے موقف کو تفصیل سے پیش کیا گیا اور ان کے باہمی اختلاف کے نکات کی بھی نشاندہی کی گئی۔ گزشتہ بحث سے درج ذیل امور مستفاد ہوتے ہیں:

- مراہمہ مؤجلہ تمویل کا ایک طریقہ ہے جس کو سودی قرضوں کے متبادل کے طور پر ایجاد کیا گیا ہے۔ جب کہ حقیقی مراہمہ بیع لمانت کی ایک قسم ہے نہ کہ تمویلی طریقہ۔
- ملک کے بیشتر علماء کو اس طریقہ پر کئی فقہی اور تکنیکی اشکالات ہیں۔ جس کی بناء پر اس کو منفق علیہ طریقہ نہیں کہا جاسکتا۔
- مجوزین علماء کے ہاں بھی یہ کوئی مثالی طریقہ نہیں، بلکہ کئی احتیاطوں کے ساتھ اختیار کیا گیا ایک حیلہ ہے۔